



سوال

اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی ہے؟

جواب

الحمد لله

اول:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسولوں کی طرف وحی کرنے کے انداز ذکر کیے ہیں، ان میں براہ راست لیکن پردے کے پیچھے سے کلام کرنے کا بھی ایک انداز ہے، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

(وَمَا كَانَ لِنَشْرِئِكَ أَنْ يُفَكِّمَهُ اللَّهُ الْأَوْحِيَاءَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

ترجمہ: کسی انسان کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے رو برو بات چیت کرے۔ البتہ یہ وحی کی صورت میں یا پردے کے پیچھے سے ہو سکتی ہے یا وہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے جو کچھ اللہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے وہ یقیناً عالی شان اور حکمت والا ہے۔ [الشوری: 51]

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ درپردہ گفتگو بھی نبیوں کیلئے ایک بہت ہی عظیم مرتبہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(تِلْكَ الرُّسُلُ فَطَنَّا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْ لَّمْ يَرْفَعِ اللَّهُ لَكَمَّ الْوَرَفِ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ)

ترجمہ: یہ رسول [جو بھیجے گئے] ہم نے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے۔

[البقرة: 253]

اور جن انبیائے کرام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ان میں درج ذیل انبیائے کرام شامل ہیں:

1- آدم علیہ السلام

ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا: "یا رسول اللہ! کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟" تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (ہاں، آپ سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو فرمائی تھی) تو اس شخص نے کہا: "آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟" تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (پس صدیاں) اس روایت کو ابن حبان نے اپنی کتاب "صحیح ابن حبان" (14/69) میں روایت کیا ہے اور اس کتاب کے محقق شعیب ازناوط نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

2- موسیٰ علیہ السلام

آپ کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے:

(وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَهْفِئًا)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خود بول کر کلام فرمایا [النساء: 164]

اسی طرح فرمایا:

(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِحِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ)



ترجمہ: اور جس وقت موسیٰ [علیہ السلام] ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور اس کے پروردگار نے ان سے کلام کیا۔ [الأعراف: 143]

ایک اور مقام پر فرمایا:

(یا موسیٰ ابی اَضْفِیْتِکَ عَلَی النَّاسِ بِرِسَالَاتِی وَبِکَلَامِی)

ترجمہ: اے موسیٰ! میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے لوگوں سے تمہیں ممتاز کر دیا ہے۔ [الأعراف: 144]

3- محمد صلی اللہ علیہ وسلم

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سفرِ معراج کے موقع پر ثابت ہے، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"[آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں] میں واپس پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا: "آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟"

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (مجھے روزانہ پچاس نمازوں کا حکم دیا گیا ہے)

موسیٰ علیہ السلام نے کہا: "یقیناً آپ کی امت روزانہ پچاس نمازوں کی استطاعت نہیں رکھتی، اللہ کی قسم! میں نے آپ سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے اور بنی اسرائیل پر میں نے

بہت ہی محنت کی تھی، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں اور ان سے اپنی امت کیلئے تخفیف کی درخواست کریں"

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں کم کر دیں، پھر جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تو انہوں نے پھر وہ بات کی کہ: --- "آپ

اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں اور ان سے اپنی امت کیلئے تخفیف کی درخواست کریں" تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگ لیا ہے کہ اب مجھے

حیا آنے لگی ہے، لیکن میں اب راضی ہوں اور اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کرتا ہوں)

بخاری: (3674) و مسلم: (162)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"یہ حدیث سب سے قوی ترین دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات براہ راست گفتگو فرمائی"

"فتح الباری" (216/7)

نیز ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"فرمانِ باری تعالیٰ: (مِثْمَمٌ مِّنْ کَلِمِ اللّٰهِ)

ترجمہ: ان میں سے کچھ تو لیسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا [البقرہ: 253]

اس میں موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آدم علیہ السلام شامل ہیں جیسے کہ [آدم علیہ السلام] بارے میں صحیح ابن حبان میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے۔

نیز فرمانِ باری تعالیٰ ہے: (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ)

ترجمہ: اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے۔ [البقرہ: 253] جیسے کہ حدیث معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیائے کرام سے آسمانوں میں دیکھا اور ہر ایک کا مقام و

مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کے مطابق دوسرے نبی سے مختلف تھا۔

"تفسیر ابن کثیر" (670/1)

نیز جس حدیث کی طرف ابن کثیر رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث: "صحیح ابن حبان" (76/2) میں ہے اور اس کے بارے میں شیخ

شعیب آرنوٹ کہتے ہیں: اس کی سند سخت ضعیف ہے۔

تاہم ہماری ذکر کردہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ والی حدیث اس کی جگہ کافی ہے۔

دوم:



صرف موسیٰ علیہ السلام کو "علیم اللہ" سے ملقب کرنے کی کیا وجہ ہے؟

اس بارے میں شیخ عبدالرحمن المحمود حفظہ اللہ کہتے ہیں:

"صرف موسیٰ علیہ السلام کو "علیم اللہ" کہا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آدم علیہ السلام سے بھی گفتگو فرمائی ہے، اس بارے میں یقینی بات تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کی طبعی حالت میں گفتگو فرمائی ہے، جبکہ آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی تو وہ آسمانوں پر تھے، اسی طرح جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی تو اس وقت آپ کو بھی جسم و روح کیساتھ آسمان پر لے جایا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو زمین پر ہی فرمائی، اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کی یہ واضح خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اور ہمارے نبی پر بہترین درود و سلام نازل فرمائے"

ماخوذ از: "تیسیر لمحۃ الاعتقاد" (ص 152) مکتبہ شاملہ کی ترتیب کے مطابق

واللہ اعلم

اسلام سوال و جواب

فتویٰ نمبر: 156077